

# HADIITH AMAKUMI ANA EZA NAWAWI

< اللوغاندية - LUGANDA - Oluganda >



**KYAWANDIIKIBWA:**

**Abu Zakaria Al-Nawawi**



**KIVVUNUDDWA:**

**FAROOQ ABDULNOOR NTANDA**

**KYEKENENYEDDWA:**

**ABDULRAHMAAN IBRAHIIM  
MUKISA**

# الأربعون النووية



أبو زكريا النووي



الترجمة: فاروق عبدالنور انتاندا

المراجعة: عبدالرحمن إبراهيم موكيسا

Hadiith amakumi ana eza Imaam Al- Nnawawi	متن الأربعين النووية
Ku lw'elinyya Iya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi	بسم الله الرحمن الرحيم
Hadiith esooka	الحديث الأول
Mazima emirimu gituuka nakumalirira (Kunuyirira)	إنما الأعمال بالنيات
Eva ku Mukulembeze w'abakkiriza Abi Hafswa Umar bun Al-khatwaabi (Allah yasiima kuye) yagamba nti: Nawulira omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere kuye nga agamba nti:	عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:
“Mazima emirimu gyonna gituuka nakumalirira – okukkirizibwa n'okutuuka mu bujjuvu bwaagyo kisinziira kubigendererwa byannyini gyo (Niyyah ye) era mazima buli muntu afuna empeera z'ekyo kyaba agenderedde, omuntu bwekubeeranga okusenguka kwe, asenguse kulwa Allah n'okutaasa omubaka we, empeera z'okusenguka kwe ziri wa Allah n'omubaka we, n'omuntu okusenguka kwe bwekuba nga asenguse lwa nsi nga gyayagala okufuna oba lwakuwasa mukyala gwayagala empeera y'okusengukakwe	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

yebeera ekyo ekimusengusizza”	
Yayogerwa Imaam w'aba Hadiith Abu Abdallah Muhammad bun Ismail bun Ibrahiim bun Mugiirah bun Bardizabah Al Bukhar No.1	رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَهَ الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ [رقم: 1].
Ne Abu Al-Husain Muslim bun Al-hajjaaj bun Muslim Al-qushairy Al-naisaabuury No. 1907 - Allah asiime kubo bombiriri	وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقَشِيرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ [رقم: 1907] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
Mu bitabo byabwe bombiriri ebisinga okuba ebituufu mubitabo bya Hadiith	فِي صَحِيحَيْهِمَا لِلذَّيْنِ مِمَّا أَصْحَحَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.
Hadiith ey'okubiri	الحديث الثاني
Okujja kwa Jibrii okusomesa Abasiraamu eddiini yabwe	مَجَىءَ جَبْرِيلَ لِيُعَلِّمَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَ دِينِهِمْ
Eva Ku Umar - Allah yamusiima - era yagamba nti:	عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا قَالَ:
Twaali tutudde awali Omubaka wa Allah olunaku lumu, neyeyoleka gyetuli omusajja nga engoyeze njeru nnyo n'enviirize nga nzirugavu nnyo nga talabikako kabonero ka lugendo era nga tewali n'omu mufte omumanyi okutuusa bweyatuula awali Nabbi – (s.a.w), nasisinkanya amaviivige n'amaviivi ga Nabbi (s.a.w), nassa ebibatu bye ku bisambi bye n'agamba nti; owange Muhammadi Mbuulira (kubikwaata) kubusiraamu?	بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَأَسْنَدَ رِجْلَيْهِ إِلَى رِجْلَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَخْرُجَ التَّيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا

Nagamba Omubaka wa Allah (s.a.w) nti: Obusiraamu kwekujulira n'okukakasa nti tewali kisinzibwa mubutuufu okujjako Allah era mazima ddala Muhammadi Mubaka wa Allah, n'okuyimirizaawo esswallah ettaano buli lunaku, n'okutoola zakkah mu mmaali yo, n'okusiiiba omwezi gwa Ramadhan, n'okulambula enyumba ya Allah ey'emizizo (Kaaba okukola hijja) kwoyo alina obusobozi obumutuusa gyeri, Namugamba nti: oyogedde mazima. Nagamba (omunyuma wa hadiith eno) nti: Fenna netumwewuunya kubanga yamubuuza ate yamukakasa! Namugamba nti: Mbuulira ku bukkiriza (Imaan). Namugamba nti: Obukkiriza kwekukkiriza mu Allah, neba Malaika be, n'ebitabo bye, n'Ababaka be, n'olonaku lw'enkomerero, era n'okukkiriza okugera kwe obulungi bwakwo n'obubi bwakwo byonna biva eri Allah, nagamba nti oyogedde mazima. Nagamba (omusajja) nti: Mbuulira kukuyisa obulungi. (Nabbi) nagamba nti: Kwekusinza Allah nga olinga amulabako, newankubadde nga gwe tomulaba mazima ye (Allah) akulaba. Namugamba nti: Oyogedde mazima. Namugamba nti: Mbuulira kulunaku lw'enkomerero, namugamba nti: Tali abuzibwa

لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ  
 الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ  
 وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ  
 وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ  
 الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ  
 لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ  
 السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ  
 السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ  
 تَلِدَ الْأُمَمُ رِبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاءَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ  
 رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ.  
 فَلَبِثْنَا مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُؤُا تَدْرِي مَنْ  
 السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ  
 جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

<p>kulwo nga yasinga okumanya (ebirukwata ko) okusinga abuzizza. Namugamba nti: Mbuulira kububonero bwalwo, namugamba nti: Y'omuzaana okuzaala mukamaawe, era kwekulaba abatayambala nga ngatto, ab'ayitanga obukunya, abaavu, abalunzi b'embuzi nga bavuganya mukuzimba amagoloofa, Oluvannyuma (omusajja) n'agenda bbo (baswahaaba ne Nabbi) nebamalawo akaseera, oluvannyuma Nabbi (s.a.w) nagamba nti: Owange Umar omanyi ani abadde ambuuzza? Naddamu (Umar) nti: Allah n'omubaka we be bamanyi, Namugamba nti: Oyo abadde Malaika Jibulir azze kubayigiriza bikwata ku ddiini yammwe”.</p>	
<p>Yayogerwa Muslim No.8</p>	<p>رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:8].</p>
<p>Hadiith eyokusatu</p>	<p>الحديث الثالث</p>
<p>obusiraamu byazimbibwa kumpagi taano</p>	<p>بني الإسلام على خمس</p>
<p>Eva ku Abi Abdulrahmaan Abdullah bin Umar bun Al-khatwab (Okusiima kwa Allah kube kubo bombiriri) yagamba nti: Nawulira Omubabaka wa Allah (s.a.w) nga agamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:</p>

<p>Obusiraamu bwazimbibwa kumpagi taano, okukakasa n'okujulira nti tewali kisiinzibwa mubutuufu okujjako Allah, n'okkakasa nti Nabbi Muhammad mudduwe era mubakawe, n'okuyimirizaawo esswala (ettaano buli lunaku), n'okutoola zakkah (mu mmaaliyo), n'okusiiba omwezi gwa ramadhan, n'okulambula enyumba ya Allah ey'emizizo (kaaba okukola hijja)</p>	<p>بُيِّئَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.8 Ne Muslim No.16</p>	<p>رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 8]. وَمُسْلِمٌ [رقم: 16].</p>
<p>Hadiith eyo kuna</p>	<p>الحديث الرابع</p>
<p>Mazima buli omu mummwe kukunnganyizibwa okutondebwa kwe mulubuto lwa nyina</p>	<p>إن أحدكم يجمع في بطن أمه</p>
<p>Eva ku Abdallah bun Mas-u-d (Allah yasiima kuye) yagamba nti: "Yatunyumiza Omubaka wa Allah (Okusaasira n'emirembe bibeere kuye) naye nga yewamazima akakasibwa nti wamazima (mwebyo byeyajja nabyo) nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- -وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ-:</p>
<p>Mazima omu mummwe kukunnganyizibwa okutondebwa kwe mulubuto lwannyina ennaku amakumi a'na (40) nga tondo butondo (mazzi buzzzi) oluvannyuma n'afuuka ekisaayisaayi, n'oluvannyuma n'afuuka ekinyamanyama, oluvannyuma Allah n'atuma gyali Malaika</p>	<p>إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ؛ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ</p>

namufuwamu omwoyo,  
 n'alagirwa ebigambo  
 bina:Okuwandiika okugabirirwa  
 kwe oba ebyenfuna ye (Riziq)  
 okuwandiika ebbanga  
 ly'obuwangaazi bwe, n'emirimu  
 gye, mwonoonefu oba  
 mulongoofu, ndayira Allah nga  
 tewali musinzibwa (mulala) mu  
 mazima atali yye, mazima omu  
 mummwe akolera ddala  
 emirimu gy'abantu b'omujjana  
 okutuusa lwewatabeera wakati  
 we nayo okujjako enzira oba  
 akakokola (oba akaseera  
 katono nnyo) kyokka nga  
 kyakulembera kuye ekitabo (nti  
 alibeera mwonoonefu) n'akola  
 emirimu gy'abantu b'omuliriro  
 n'aguyingira.Era mazima omu  
 mummwe ayinza okukola  
 emirimu gy'abantu b'omumuliro  
 okutuusa lwewatabeera wakati  
 we nagwo okujjako enzira  
 (akabanga katono) naye nga  
 kyakulembera kuye ekitabo nti  
 alibeera mulongoofu nakola  
 emirimu gy'abantu bo mujjana  
 nagiyingira.

النَّارَ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ  
 النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ  
 عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ  
 فَيَدْخُلُهَا.

Yayogerwa Bukhar No.3208,  
 ne Muslim No.2643

زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:3208]. وَمُسْلِمٌ  
 [رقم:2643].

Hadiith eyokutaano

الحديث الخامس

Omuntu yenna agunja muddiini  
 yaffe ekitali kyamuyo  
 kimuddizibwa

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد



<p>Eva ku Maama w'abakkiriza (Maama Abdallah), Aisha – Allah yasiima kuye- yagamba nti: Yagamba omubaka wa Allah nti:</p>	<p>عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-</p>
<p>Omuntu yenna agunja muddiini yaffe eno ekyyo kyonna ekitali kya muyo, kimuddizibwa (tekikkirizibwa)</p>	<p>مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.2697, ne Muslim No.1718</p>	<p>رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 2697]، وَمُسْلِمٌ [رقم: 1718].</p>
<p>Ne munjogera endala eya Muslim</p>	<p>وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:</p>
<p>Omuntu yenna akola omulimu nga teguliiko ndagiriro yaffe gumuddizibwa (Tegukkirizibwa)</p>	<p>مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.</p>
<p>Hadiith ey'omukaaga</p>	<p>الحديث السادس</p>
<p>Mazima ebyakkirizibwa byeyolefu n'ebyasiyibwa byeyolefu</p>	<p>إن الحلال بين وإن الحرام بين</p>
<p>Eva ku Abi Abdallah Annu-umaan bin Bashiiir –Allah yasiima kuye kubo bombiriri-yagamba nti: Nawulira Omubaka wa Allah nga agamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:</p>
<p>Mazima ebyakkirizibwa byeyolefu n'ebyasiyibwa byeyolefu. Newakati waabyo (ebyakkirizibwa nebyasiyibwa) waliwo ebintu ebifanagana (ebitategerekeka bulungi) mu kulamula kwabyo abasinga obunji mubantu tebabimanyi, Omuntu yenna eyewala ebintu ebibuzaabuza</p>	<p>إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْتَعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ.</p>

<p>aba atukuzza eddiini ye n'ekitiibwa kye, ate omuntu agwa (akola) ebintu ebibuzaabuza agwa mu byaziyizibwa nga bwolaba omulunzi alundira okumpi n'olukomera (olusalosalo olusibe) abeera kumpi n'okuluyingira, abange mukimanye nti buli mufuzi alina ekifo ekikumwa, era mazima olukomera lwa Allah byebyo byeyaziyiza. Abange mukimanye nti mazima mu mubiri mulimu ekinyama bwekilongoka gulongoka omubiri gwonna era bwekyononeka gwononeka omubiri gwonna, era mukimanye nti gwemutima.</p>	<p>أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.52, ne Muslim No.1599</p>	<p>زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:52]، وَمُسْلِمٌ [رقم:1599].</p>
<p>Hadiith ey'omusaanvu</p>	<p>الحديث السابع</p>
<p>Eddiini kulongosa nakubuulirira</p>	<p>الدين النصيحة</p>
<p>Eva ku Ruqayya Tamiim bun Aus Al-ddaar – Allah yasiima kuye- yagamba nti: mazima Nabbi (s.a.w) yagamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي رُقَيْيَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:</p>
<p>Eddiini kulongosa nakubuulirira, netugamba nti: Kulwaani? Nagamba nti: kulwa Allah, nekulwekitabo kye, n'omubaka we nabakulembeze b'abasiraamu ne kulwabasiraamu bonna</p>	<p>الِدِينِ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: بَلَى؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ. وَلِرَسُولِهِ. وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ .</p>

Yayogerwa Muslim No.55	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: 55].
Hadiith ey'omunaana	الحديث الثامن
Nalagirwa okulwanyisa abantu (abatakkiriza)	أمرت أن أقاتل الناس
Eva ku Ibun Umar –Allah yasiima kubo bombiriri-yagamba Omubaka wa Allah (s.a.w) nti:	عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
Nalagirwa okulwanyisa abantu (abatakkiriza) okutuusa lwebakakasa era nebakkiriza nti tewali kisinzi bwa mubutuufu okujjako Allah yekka era nebakakasa nti mazima Muhammad mubaka wa Allah, era bayimirizeewo esswala, era nebatoola zakah mu mmaali yabwe, ebyo bwebanabikola bajja kuba bakuumye kunze emisaayi gyabwe ne mmaali yabwe okujjako ebivunaanwa by'obusiraamu era n'okubalibwa kwabwe kuli eri Allah owekitiwa.	أمرت أن أقاتل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .
Yayogerwa Bukhar No.25, ne Muslim No. 22	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 25]، وَمُسْلِمٌ [رقم: 22].
Hadiith ey'omwenda	الحديث التاسع
kyonna kyemba nga mbagaanye mukyewalire ddala	ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

<p>Eva ku Abi Hurairah Abdulahmaan bun Swakhar- Allah yasiima kuye- yagamba nti: Nawulira Omubaka wa Allah Okusaasira n'emirembe bibeere gyalu nga agamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ -رَضِيَ الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- يَقُولُ:</p>
<p>Kyonna kyemba nga mbagaanye mukyewalire ddala, ate kye mbanga mbalagidde mukikole nga bwemuba musobodde. Mazima ekyazikiriza abo ababasooka wo, kuyitiriza kubuuzza kwabwe n'okwawukana kuba Nabbi bwabwe.</p>	<p>مَا هَيَّيْتُمْ عَنْهُ فَأَجْتَنِبُوهُ. وَمَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ وَأَخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ .</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.7288, ne Muslim No.1337</p>	<p>رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:7288]، وَمُسْلِمٌ [رقم:1337].</p>
<p>Hadiith eye kkumi</p>	<p>الحديث العاشر</p>
<p>Mazima ddala Allah mulungi takkiriza okujjako eburungi</p>	<p>إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا</p>
<p>Eva ku Abi Hurairah – Allah yasiima kuye- yagamba nti: Yagamba omubaka wa Allah (okusaasira n'emireembe bibeere kuye) nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-</p>
<p>Mazima Allah mulungi takkiriza okujjako ekirungi, era mazima Allah yalagira abakkiriza ebyo byeyalagira ababaka, nagamba owekitiibwa: “Abange mmwe ababaka mulye mubirungi (ebya halaal) era mukole n'emirimu emirungi” Era Owekitiibwa Nagamba: Abange mmwe abakkiriza mulye ebirungi (ebya halaal) mwebyo</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟</p>

<p>byetwabagabirira, Oluvannyuma nayogera ku musajja atindigga eggendo nga enviiri zimusunsumadde era nga agubaasidde, n'awanika emikono gye nga agamba nti: Owanga omulezi wange, naye nga eby'okulya bye bya haraamu, neby'okunya bye bya haraamu, nebyambalo bye bya haraamu, era nga awangalidde ku haraamu, Kale oyo butya Allah bwayinza okumwanukula?!</p>	
<p>Yayogerwa Muslim Hadiith No.1015</p>	<p>رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:1015].</p>
<p>Hadiith eye kkumi n'emu</p>	<p>الحديث الحادي عشر</p>
<p>Leka ky'obuusabuusa okole kyewekakasa</p>	<p>دع ما يربيك إلى ما لا يربيك</p>
<p>Eva ku Abi Muhammadi Al- Hassan bun Ali bun Abi Twalib – Allah yasiima kubo bombiriri Muzzukulu wa Nabbi (s.a.w) era omutebenkeza w'omwoyo gwe yagamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَبَّطِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَوَإِحَابَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:</p>
<p>Nakwata okuva ku mubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- (ekigambo ekigamba nti):</p>	<p>حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-</p>
<p>Leka ky'obuusabuusa okole kyewekakasa</p>	<p>دَعُ مَا يُرْبِيكَ إِلَى مَا لَا يُرْبِيكَ.</p>
<p>Yayogerwa Tirimith No.2520 ne Nnasaa-e, No.5711</p>	<p>رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم:2520]، وَالنَّسَائِيُّ [رقم: 5711].</p>

Tirimith Nagamba nti Hadiith eri Hassan ntuufu.	وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
Hadiith eyekkumi n'ebbiri	الحديث الثاني عشر
Ekiraga nti obusiraamu bw'omuntu bujjudde	من حسن إسلام المرء
Eva ku Abi Hurairah -Allah yasiima kuye- yagamba, Omubakaba wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere kuye nti:	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
Ekiraga nti obusiraamu bw'omuntu bujjudde kwekuleka ebyo ebitamukwaatako”	مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.
Hadiith eri Hassan.	حَدِيثٌ حَسَنٌ.
Yayogerwa Tirimith No.2318, ne Ibn Maajah No.3976	رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: 2318] . ابن ماجه [رقم: 3976].
Hadiith eye kumi n'essatu	الحديث الثالث عشر
Omu mummwe tayinza kuba mukkiriza okutuusa nga ayagalizza mugandawe ekyo kyayagaliza omwoyo gwe.	لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
Eva ku Abi Hamuza Anasi bun Maalik, - Allah yasiima kuye- Omuweereza wa Nabbi okusaasira n'emirembe bibeere kuye yagamba:	عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
Omu mummwe tayinza kubeera mukkiriza (omujjuvu owannamaddala) okutuusa nga ayagalizza mugandawe	لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

(omusiraamu) ekyo (naye) kyayagaliza omwoyo gwe”	
Yayogerwa Bukhar Hadiith No.13, ne Muslim No.45	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:13]. وَمُسْلِمٌ [رقم:45].
Hadiith eye kumi nennya	الحديث الرابع عشر
Omusaayi gw'omuntu tegukkirizibwa kuyiibwa okujjako olw'emu kunsonga essatu	لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
Eva ku lbun Mas-uud –Allah yasiima kuye- yagamba: Yagamba Omubaka wa Allah - Okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nti:	عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
Omusaayi gw'omuntu omusiraamu yenna akkiriza era nakakasa nti tewali kisinziibwa mubutuufu okujjako Allah, era nakkiriza nti mazima ddala nange (Muhammadi) ndi mubaka wa Allah, tegukkirizabwa kuyiibwa okujjako nga waliwo ensonga emu ku satu zino: Omwenzi omufumbo, Omuntu asse munne, N'oyo aleka eddiini ye (obusiraamu) ayawukana ku kibinja (kya Nabbi (s.a.w))”	لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ] إِلَّا بِأِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّكْنِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّارُكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.
Yayogerwa Bukhar No.6878, ne Muslim No.1676	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:6878]. وَمُسْلِمٌ [رقم:1676].
Hadiith eye kumi n'ettaano	الحديث الخامس عشر

<p>Omuntu yenna akkiriza Allah n’olunaku lwenkomerero kirungi ayogere birungi byereere.</p>	<p>من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا</p>
<p>Eva ku Abi Hurairah -Allah yasiima kuye- Nti mazima omubaka wa Allah okusaasira n’emimbe bibeere kuye yagamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:</p>
<p>Omuntu yenna akkiriza Allah n’olunaku lwenkomerero kirungi ayogere birungi byereere oba asirike, era n’omuntu akkiriza Allah n’olunaku lwenkomerero agulumize mulirwana we, era n’omuntu akkiriza Allah n’olunaku lw’enkomerero agulumize omugenyi we”</p>	<p>مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيقَهُ.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.6018, ne Muslim No.47</p>	<p>رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 6018]، وَمُسْلِمٌ [رقم: 47].</p>
<p>Hadiith eye kumi n'omukaaga</p>	<p>الحديث السادس عشر</p>
<p>Tosunguwalanga</p>	<p>لا تغضب</p>
<p>Eva ku Abi Hurairah- Allah yasiima kuye- nti: Mazima omusajja yagamba Omubaka wa Allah – Okusaasira n’emirembe bibeere kuye- “ Naamirayo” (ekintu kyemba ne kwatako)</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْصِنِي.</p>
<p>Namugamba (Nabbi) nti: Tosunguwalanga, nakiddingana emirundi ejiwerako nti: “Tosunguwalanga”</p>	<p>قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مَرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ.</p>



<p>Yayogerwa Bukhar No.6116</p>	<p>رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:6116].</p>
<p>Hadiith eye kumi n'omusanvu</p>	<p>الحديث السابع عشر</p>
<p>Mazima Allah yalaalika okuyisa obulungi eri buli kintu.</p>	<p>إن الله كتب الإحسان على كل شيء</p>
<p>Eva ku Abi Ya-ala Ausi - Allah yasiima kuye- nga agijja ku Mubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:</p>
<p>Mazima Allah yalaalika / yalagira okuyisa obulungi eri buli kintu, era bwe muba mutta ekintu kyonna mukitte mungeri esinga obulungi, era bwe muba musala ensolo mugisalenga mungeri esinga okuba ennungi, era muwagale nga ebiso bibeere byogi era kyosala okiwe emirembe (obutakibonya bonya nga okisala)</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِجِدِّ أَحَدِكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِإِرْحِ ذَبِيحَتَهُ.</p>
<p>Yayogerwa Muslim No.1955</p>	<p>رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:1955].</p>
<p>Hadiith eye kumi n'omunaana</p>	<p>الحديث الثامن عشر</p>
<p>Tya Allah buli wonna wobanga oli.</p>	<p>اتق الله حيثما كنت</p>
<p>Eva ku Abi Dharri Jundabi bun Junaadah, ne Abi Abdulrahmaan Muathi bun Jabal -Allah yasiima kubo bombiriri- nga eva ku Mubaka wa Allah - Okusaasira</p>	<p>عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:</p>

n'emirembe bibeere kuye-yagamba nti:	
Tya Allah wonna wooba ng'oli, era bw'okola nga ekibi kigobeerezeeko ekirungi kijja kukisangulawo, era okolagane n'abantu n'empisa ennungi.	اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّبًا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ .
Yayogerwa Tirimith No.1987	رَوَاهُ الرَّمِذِيُّ [رقم: 1987]
era nagamba nti Hadiith eri Hassan, era mu copiya ezimu Hassan entuufu.	وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
Hadiith eye kumi n'omwenda.	الحديث التاسع عشر
WeKuume Allah ajja kukuuma	احفظ الله يحفظك
Eva ku Abdallah bin Abbaas - Allah yasiima kubo bombiriri-yagamba	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
Lumu nali ne Nabbi (s.a.w) nga ampeese kunsolo nagamba nti:	كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا، فَقَالَ:
Owange mulenzi ggwe! mazima ngenda kukuyigiriza ebigambo bino bikwaate butiribiri: " Wekuume Allah (nga oteeka munkola ebiragiyo bye) ajja kukuuma , era wekuume Allah ojja kumusanga mu maasogo (naye ajja kubeera naawe mumbeera yonna) era bwoba nga osaba saba Allah yekka. era bwoba nga osaba obuyambi busabe Allah yekka, era manya nti singa ebitonde byonna byegatta okkugasa	يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتِ فَاسْأَلِي اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْتَيْتِ فَاسْتَعِينِي بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَحَفَّتِ الصُّحُفُ.

<p>n'akantu konna tebiyinza kugasa okujjako ekyo Allah kyeyakuwandiikako. Ate era singa ebitonde byonna byegatta bibeeke akabi kebikutuusaako tebiyinza kukukosa okujjako nga Allah yakikuwandiikako, manya nti amakalaamu (agawandiika ebikwata ku baddu) gasitulwa dda kumpapula era nebwiino n'akala.</p>	
<p>Yayogerwa tirimith No.2516</p>	<p>رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: 2516]</p>
<p>Era nagamba nti hadiith eri Hassan ntuufu.</p>	<p>وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.</p>
<p>Era munjogera ndala etali ya Tirimith:</p>	<p>وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ:</p>
<p>Wekuume Allah ojja kumusanga mu maasogo (olubeerera naye ajja kubeera naawe mumbeera yonna) Manya Allah nga oli mumbeera ennungi naye ajja kukumanya nga oli mumbeera ey'obuzibu, era manye nti mazima buli ekikusubye tewali wakukifuna era nabuli kyofuna tekyali kyakukusuba, era manya nti okutaasa (kwa Allah) kutambulira wamu n'obuguminkiriza, era mazima essanyu litukibwako nakumala kuyita mubuzibu era mazima oluvannyuma lw'obuzibu wabeerawo obwangu.</p>	<p>أَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ أَمَامَكَ، نَعْرِفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ نَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْقَرْبَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.</p>

Hadiith eyamakumi abiri	الحديث العشرون
Bwoba tolina nsonyi kola kyonna kyoyagala	إذا لم تستح فاصنع ما شئت
Eva ku Ibun Mas-uud Uqubah bun Amuru Al answaar Albadir -Allah yasiima kuye- yagamba: Yagamba Omubaka wa Allah - Okusaasira n'emirembe bibeere kuye nti:	عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
Mazima mwebyo abantu byebaasanga mubigambo by'obwa Nabbi ebyasooka, (kyekigambo ekigamba) nti: Bwoba tolina nsonyi kola kyonna kyoyagala.	إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.
Yayogerwa Bukhar No.3483	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:3483].
Hadiith ey'amakubi abiri	الحديث الحادي والعشرون
Gamba nti nzikirizza Allah oluvanyuma wenywereza ku mateeka ge.	قل آمنتم بالله ثم استقم
Eva ku Abi Amru kigambibwa nti ye Amurah Sufiyaan bun Abdallah - Allah yasiima kuye- yagamba nti:	عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:
Nagamba: Owange ggwe Omubaka wa Allah mbuliraayo mubusiraamu ekigambo kyesigenda kubuuza muntu mulala nate. Nanziramu nti: "gamba nti nzikiriza Allah oluvannyuma wenywereze ku mateeka ge"	قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ: قَالَ: قُلْ: أَمَنْتُ بِاللَّهِ . ثُمَّ اسْتَقِم .

Yayogerwa Muslim No.38	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:38].
Hadiith ey'abiri mw'ebbiri	الحديث الثاني والعشرون
Olaba otya singa nsaala esswala ez'obwetteeka, nensiiba ne Ramadhan	أُرِيْتُ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَكْتُوبَاتِ وَصَمْتَ رَمَضَانَ
Eva ku Abi Abdallah Jaabir bun Abdallah al-answaar- Allah yasiima kubo bombiriri:	عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
Mazima omusajja yabuuzza Omubaka wa Allah - Okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nagamba nti: Olaba otya singa nsaala esswala ttaano ezaalalikibwa (ez'obwetteeka), era nensiiba ramadhan, nenkola ne Allah byeyakkiriza byayagala, (ebya halaal) neneziziyiza ne Allah byeyagaana (ebyaharaam) okwo nessongerako kirala kyonna, nsobola okuyingira ejjana? (Nabbi) namuddamu nti yee (oyingira ejjana)	أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أُرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصَمْتَ رَمَضَانَ، وَأَخَلَّيْتَ الْحَلَالَ، وَحَرَمْتَ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَرِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
Yayogerwa Muslim No.15	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:15].
Hadiith ey'abiri mw'essatu	الحديث الثالث والعشرون
Okwetukuza kitundu kyabukkiriza	الطهور شرط الإيمان
Eva ku Abi Maalik Al- haarith bun A'swim Al-ashi-ariyy - Allah yasiima kuye- yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah -	عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

Okusaasira n'emirembe bibeere kuye nti:	
Okwetukuza kitundu kyabukkiriza, n'ekigambo "Al-hamudu lillah" (Amatendo gonna ga Allah) empeera zaakyo zijjuza minzaane, n'ebigambo ebibiri "Subuhaanallah Walihamudu lillah" bijjuza ebbanga eriri wakati w'eggulu n'ensi. Ate ye yo esswala kitangaala ate okusaddaaka kabonero kabukkiriza, n'obuguminkiriza kitaangaala ate yo Qur'aan yaakuwa bujulizi gyoli mubulungi oba mububi (eri oyo eyagisuula muguluka Allah abeere nga amuwa ekimusaanira) Manya nti buli muntu akeera kumakya, mulimu atunda omwoyo gwe mwebyo Allah byayagala nabeera nga aguwonyezza, oba nagutunda mwebyo Allah byatayagala nabeera nga agunnyise	<p>الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّؤُ الْمِيزَانِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّانِ - أَوْ: تَمَلُّؤُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ حَبِيبٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعِيقٌ أَوْ مَوْبِقٌ.</p>
Yayogerwa Muslim No.223	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: 223].
Hadiith ey'abiri mw'ennya	الحديث الرابع والعشرون
Abange baddu bange mazima nze neziyizaako obulyazamaanyi	يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
Eva ku Abi Dharri Al-gaffari - Allah yasiima kuye- nga agijja ku Nabbi -Okusaasira	عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ:

<p>n'emirembe bibeere kuye- nga naye agijja ku Allah owekitiibwa (Hadiith Al-qudus), yagamba nti:</p>	
<p>Abange baddu bange mazima nze neziyizaako obulyazamaanyi era nembuziyiza wakati wammwe (nabufuula haraam) kale temwelyazamanyanga. Abange baddu bange, mwenna muli babuze okujjako oyo gwemba nunngamizza kale munsabe okulungamizibwa nja kubalunngamya, Abange baddu bange mwenna muli bayala okujjako oyo gwemba ndisizza, kale munsabe okubaliisa nja kubaliisa. Abange baddu bange mwenna muli bukunya okujjako oyo gwemba nyambazizza kale munsabe okubambaza nja kubambaza, Abange baddu bange mwenna musobya ekiro n'emisana ate nze nsonyiwa ebisobyo byonna, kale munsabe okubasonyiwa nja kubasonyiwa, Abange baddu bange mazima mmwe temusobola kwekobaana kuntuusako kabi nekantuukako era nga nebwegatta okubaako kyemungasa nakyo tekisobola kungasa, Abange baddu bange, singa abaabasookawo nabenkomerero mu bantu namajinni mummwe babeera kubukkiriza nga obuli ku mutima gw'omusajja asinga</p>	<p>يا عبادي: إِنِّي حَرَمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا: فَلَا تَطَاوَأُوا. يَا عِبَادِي! كَلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتَهُ، فَاسْتَدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كَلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتَهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمَكُم. يَا عِبَادِي! كَلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتَهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُم. يَا عِبَادِي! إِنْتُمْ تَخْطِبُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا: فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنْتُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَمِّي قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتْكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنِّي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا يَنْقُصُ الْمُخْطِئُ إِذَا أُدْخِلَ النَّجْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوقِفْكُمْ إِنبَاهًا: فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.</p>

<p>okutya Allah mummwe, tekirina kyekyongera ku bufuzi bwange n'akamu, Abange baddu bange singa abaabasookawo nabenkomerero mu bantu namajinni mummwe babeera ku bujeemu nga obuli ku mutima gw'omusajja asinga obujeemu mummwe, tekirina kyekiyinza kukendeeza ku bufuzi bwange (obwakabaka bwange) nakamu, Abange baddu bange singa abaabasookawo nabenkomerero mu bantu namajinni mummwe bakunnganira mu lusenyi lumu buli omu nansaba kyeyetaaga era nenkimuwa byennina tebiyinza kukendeerako nakamu wadde wabula kibanga bwolaba (otuzzi otujjira) kumpiso ennyuluddwa munyanja, Abange baddu bange mazima egyo emirimu (gyemukola) giyamba mmwe, nze ngibakumiira bukuumi (mubuwandiike) era oluvannyuma gijja kubanjulirwa (kubaddizibwa) oyo alisanga obulungi mugyo yebazanga Allah, n'oyo alisanga ekitali ekyo (ekibi) anenyanga mwoyo gwe (anti gwe gwamulagiranga okukola ebikyamu).</p>	
Yayogerwa Muslim No.2577	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: 2577].
Hadiith ey'abiri mw'ettaano	الحديث الخامس والعشرون



<p>Abagagga batututteko empeera zonna</p>	<p>ذهب أهل الدثور بالأجور</p>
<p>Eva ku Abi Dharri -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Mazima abamu kuba swahaaba b'Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- b'agamba Nabbi -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nti: Owange gwe omubaka wa Allah, abagagga batututteko empeera zonna, kubanga basaala nga bwetusaala, nebasiiba nga bwetusiiba, era basaddaaka kwebyo byebaba bafisizza mu mmaali zaabwe N'abaddamu nti: Abaffe Allah teyabateerawo byemuyinza okusaddaaka? Mazima buli kutendereza nti "Subuhaana Allah" saddaaka, n'okugamba nti " Allahu akibar" (Allah yasinga buli kintu kyonna), saddaaka, n'okugamba nti " Alihamudu lillah" saddaaka, n'okugamba nti "Laa ilaaha illa Allah" (Tewali kisinzibwa mubutuufu okujjako Allah) saddaaka. N'okulagira empisa ennungi, saddaaka n'okuziyiza empisa embi, saddaaka, n'omu mummwe okugenda eri mukyalawe (munsonga z'obufumbo) saddaaka. Nebagamba nti: Owange omubaka wa Allah, Omu mufte amala ekyetaago kye ate nafunamu empeera? Naddamu nti mulaba mutya</p>	<p>عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَيْضًا، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ: يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ.</p>

singa ekyetaago kye akimalira muharaam (mu bwenzi) afuna omusango? Nagamba nti nabwekityo singa akimalira mu halaal afuna empeera.	
Yayogerwa Muslim No.1006	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:1006].
Hadiith ey'abiri mw'omukaaka	الحديث السادس والعشرون
Buli kiyungo ku muntu kiriko Sadaaka	كل سلامى من الناس عليه صدقة
Eva ku Abi Hurairah -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah - okusaasila n'emirembe bibeere kuye- nti:	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
Buli kiyungo kyonna ekiri ku muntu kiriko saddaaka buli lunaku enjuba lwevaayo (nga kyebaza Allah olw'okukiwa obulamu) bwewenkanyankanya wakati wababiri ababadde bakayagana eyo saddaaka, era omuntu bwomuyambako mukwebagala ensoloye, oba okulinyya ekidduka kye, oba okumusitulirako omugugu, ebyo byonna saddaaka, nabuli kigambo kyonna ekirungi saddaaka, nabuli kigere kyositula nga otambula okugenda eri esswala eba saddaaka, n'okujja ekintu ekyakabi oba ekinakuwaza mu kkubo saddaaka.	كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

Yayogerwa Bukhar No.2989, ne Muslim No.1009	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:2989]، وَمُسْلِمٌ [رقم:1009].
Hadiith ey'abiri mw'omusanvu.	الحديث السابع والعشرون
Okkola obulungi z'empisa ennungi	البر حسن الخلق
Eva ku Nawwaasi bun Sam-an -Allah yasiima kuye- nga agijja ku Nabbi- okusaasira nemirembe bibeere kuye- yagamba nti:	عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
Okkola obulungi z'emumpisa ennungi n'ekibi kyekyo ekitatenbenkera mu mutima gwo nga toyagala bantu bakimanye, era n'otwamwa abantu bakirabe.	الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكُرِهْتُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
Yayogerwa Muslim No.2553	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:2553].
Ate era nga eva ku Waabiswah bun Ma-a-bad -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Nagenda eri Omubaka wa Allah - okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nagamba nti:	وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبُدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:
Ozze kubuuzza kubulungi? nemugamba nti: Ye, nagamba nti: buuzza omutima gwo, obulungi kyekyo omutima kwegutebenkerera awamu n'omwoyo gwo, ate kyo ekibi kyekikukubisa amameeme nekitanyerera mukifuba kyo wadde nga obuzizza abantu nebakubuulira (naye bwakitaba kirungi abantu kyebaba	جِئْتُ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: اسْتَفْتِ قَلْبِكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ. وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .

<p>bakubuulidde tekitebenkera mu mutima).</p>	
<p>Hadiith eri Hassan</p>	<p>حَدِيثٌ حَسَنٌ.</p>
<p>Yayogerwa mu musinad gwa Imaam Ahmad bun Hambal No. 4/227, ne Musinad gwa Al-ddarmi No.2/246, nga olujegere lwayo luli Hassan.</p>	<p>رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ [رقم: 227/4]. وَالِدَّارِمِيِّ [246/2] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.</p>
<p>Hadiith ey'abiri mw'omunaana</p>	<p>الحديث الثامن والعشرون</p>
<p>Mbalaamira okutya Allah n'empisa ennungi</p>	<p>أوصيكم بتقوى الله وحسن الخلق</p>
<p>Eva ku Abi Najiih Al-irbaadhi bun Saariyah -Allah yasiima kuye- yagamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِيِّ بْنِ سَارِيَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:</p>
<p>Yatubuulirira Omubaka wa Allah (s.a.w) olubuulirira olwa twewanisa emitima gyaffe, nelutuyungula amaziga, netumugamba nti: Owange Omubaka wa Allah! nga olubuulirira luno lulinga olutusiibula, tulaamire, nagamba nti: Mbalaamira okutya Allah, n'okuba abawulize era abangonvu wadde nga abakulembere muddu, mazima anaabeera awangadde mummwe oluvannyuma lwange ajja kulaba enjawukana nyingi, Naye mbakuutira okwekwata kunkola yange (Sunnah) nenkola yabasigire bange abalungamu era</p>	<p>وَعَظَمْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدَّعٌ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَيَّبِينَ، عَضُوا عَلَيْنَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ.</p>

<p>abalunggama, mugyekwateko namagego, mbekesa ebintu byonna ebizuule mu ddiini kubanga buli kizuule (muddiini) kyabubuze.</p>	
<p>Yayogerwa Abu dawuuda No.4607, ne Tirimith No.266.</p>	<p>زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رقم: 4607]، وَالْتِّرِمِذِيُّ [رقم: 266]</p>
<p>nagamba nti Hadiith eri Hassan ntuufu.</p>	<p>وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.</p>
<p>Hadiith ey'abiri mw'omwenda</p>	<p>الحديث التاسع والعشرون</p>
<p>Kusinza Allah nga tomugasseekeo kintu kirala kyonna</p>	<p>تعبد الله لا تشرك به شيئا</p>
<p>Eva ku Mu-adhi bun Jabali - Allah yasiima kuye- yagamba nti: Nagamba Omubaka wa Allah -Okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nti mbuulirayo omulimu ogunyingiza ejjana, era gunnesambise omuliro, nanziramu nti:</p>	<p>عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ:</p>
<p>Obuzizza kinene ate nga mazima kyangu kwoyo Allah gwaba akigonderezza, sinza Allah nga tomugasseekeo ekintu kyonna, era yimirizaawo esswala, era otoole ne zakah mu mmaali yo, era osiibe (omwezi) gwa Ramadhan, era olambule ennyumba ya Allah okkola hijja, oluvannyuma nagamba nti: Abaffe nkulagirireyo emiryango gy'obulungi? Okusiiba ngabo, neswaddaaka ezikiza ebibi nga amazzi bwegazikiza omuliro,</p>	<p>لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنْ الْمَضْجَعِ حَتَّىٰ بَلَغَ يَعْْمَلُونَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَدُرُوزِهِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَدُرُوزُهُ سَنَامُهُ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كَلِمَةٍ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ</p>

n'esswala y'omuntu mukitundu kyekiro. Oluvannyuma n'asoma a'ya egamba nti: {Embiriizi zaabwe ze samba obuliri (bwabwe)} nayogera okutuusa ku kigambo " Ya-a maluuna" (olw'ebyo byebaali bakola) oluvannyuma nagamba nti: Abaffe nkubuire omutwe gw'ensonga zonna, nempagi yazo n'entikko yabyo byonna? Nemuddamu nti yee (mbuulira) owange gwe Omubaka wa Allah, Nangamba nti: Omutwe gw'ensonga zonna era nga kyekikolo ky'obusiraamu n'empagi luwaga (yaabwo) Swala, nentikko (yaabwo) Jihaad,(okulwana mukkubo lya Allah) Oluvannyuma nagamba nti: Ate nkubuulire ekifuga ebyo byonna? Nemugamba nti yee owange gwe Omubaka wa Allah, kyeyava akwata kululimi lwe nagamba nti: Wekuume kino (olulimi lwo) nengamba nti owange gwe Nabbi wa Allah Abaffe mazima ddala tugenda kuvunaanibwa kwebyo byetwogera nalwo (ebiyitira kunnimi zaffe) nanziramu ng'ansaasira nti nga olabye bambi! Abaffe waliwo ekigenda okuyingiza abantu omuliro nga bakululirwa ku byenyi byabwe oba ku nyindo zaabwe okusinga ebyo byezalokompoka nabyo ennimi zaabwe?!

يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ  
عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ  
بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: تَكَلَّمْتَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكْبُ  
النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ -  
إِلَّا حَصَانِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟! .

Yayogera Tirimith No.2616	رَوَاهُ الرَّيْمُذِيُّ [رقم: 2616]
nagamba nti: Hadiith Hassan ntuufu	وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
Hadiith ey'asatu	الحديث الثلاثون
Mazima Allah yabalaalikako ebyobwetteeka temubiragajjaliranga	إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها
Eva ku Abi Tha-alabah Al-khushani Jurthumi bun Naashib -Allah yasiima kuye- nga agijja ku Mubaka wa Allah - okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:	عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْبِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
Mazima Allah yabalaalikako ebyobwetteeka temubiragajjaliranga, era nabateerawo ensalosalo temuziwaguzanga, era nabaziyizaako ebintu temubyebagalanga, era n'abaako ebintu byeyasirikira (natabyogerako) nga kusaasira ghemuli nga tabyerabidde bwerabizi, kale nno temubinonyerezaako.	إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.
Hadiith eri Hassan	حَدِيثٌ حَسَنٌ.
yayogerwa Al-daar qutuni mu sunan ye No.4/84. nabalala	رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ فِي سَنَنِهِ [184/4]. وَعَبَّرَهُ.
Hadiith ey'asatu mwemu	الحديث الحادي والثلاثون

Werekereze eby'ensi Allah ajja kukwagala	ازهد في الدنيا يحبك الله
Eva ku Abi Al- abbaasi sahal bin Sa-ad Assaa-id -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Omusajja yajja eri Nabbi - okusaasira n'emirembe bibeeere kuye- nagamba nti: Owange Omubaka wa Allah ndagirira omulimu nga bwemba ngukoze Allah ajja kunjagala n'abantu banjagale, Nagamba nti:	عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ:
Werekereze eby'ensi Allah ajja kukwagala, era wererekereze abantu byebalina nabo bajja kukwagala	اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ .
Hadiith eri Hassan	حديث حسن.
Yayogerwa Ibun Maajah No.4102, nabalala munjegere ennungi	زَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ [رقم:4102]، وَعَبَّرَهُ بِأَسَانِيدٍ حَسَنَةٍ.
Hadiith ey'asatu mw'ebbiri	الحديث الثاني والثلاثون
Tokkirizibwa kwekosa wadde okukosa omulala	لا ضرر ولا ضرار
Eva ku Abi Sa-eed Saad bun Maalik bun Sinaan Al-dhudiri - Allah yasiima kuye- Nti mazima Omubaka wa Allah yagamba nti:	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
Tokkirizibwa kwekosa wadde okukosa abalala	لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .
Hadiith eri Hassan	حديث حسن.



<p>Yayogerwa Ibn Maajah No.2341, ne Al-daariqutwini No.4/228, nabalala, era neyogerwa Maliik No.2/746, mumuwatwa-a, nga eva ku Amur bun Yahaya nga agijja ku kitaawe nga agijja ku Nabbi (S.A.W), nga eri murusala nagajjamu Abu Sa-eed</p>	<p>رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ [راجع رقم: 2341]. وَالدَّارِقُطِيُّ [رقم: 228/4]. وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدًّا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ [746/2] فِي الْمَوْطِ عَنْ عُمَرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ،</p>
<p>Era erina amakubo amalala nga buli limu liwa linnaaryo amaanyi</p>	<p>وَلَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.</p>
<p>Hadiith ey'asatu mw'esatu</p>	<p>الحديث الثالث والثلاثون</p>
<p>Obujulizi buleetebwa muwaabi, n'okulayira kwa omuwawaabirwa.</p>	<p>البيئنة على المدعي واليمين على من أنكر</p>
<p>Eva ku lbun Abbaasi -Allah yasiima kuye- Mazima Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:</p>	<p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:</p>
<p>Singa abantu baali baweebwa kusenziira kukuwoza kwabwe, abantu bandiwozezanga emmaali yabantu (nebagitwala) n'okuyiwa emisaayi gyabwe, naye obujulizi bulina kuleetebwa muwaabi, n'okulayira kwa omuwawaabirwa.</p>	<p>لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ. لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.</p>
<p>Hadiith eri Hassan</p>	<p>حَدِيثٌ حَسَنٌ.</p>
<p>Yayogerwa Al-baihaqi mu sunnan No.10/252, nabalala, nga muswahihaini (Bukhar ne Muslim)</p>	<p>رَوَاهُ النَّبَيْتِيُّ [فيالسنن 252/10]. وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.</p>

Hadiith ey'asatu mw'ennya	الحديث الرابع والثلاثون
Abanga alabye mummwe ekitamwa akijjewe n'omukono gwe	من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
Eva ku Abi Sa-eed Al-khuduri - Allah yasiima kuye- Yagamba nti : Nawulira Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nga agamba nti:	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:
Omuntu yenna abanga alabye mummwe ekintu ekitamwa (muddiini) akijjisengawo omukono gwe, bwaba tasobodde (kukigisaawo mukono) akijjiseewo olulimi lwe, bwaba tasobodde (kukijjisaawo lulimi) akitamwe mumutima gwe, naye eky'okukitamwa mu mutima gwe buba bunafu bwabukkiriza	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .
Yayogerwa Muslim No.49	رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:49].
Hadiith ey'asatu mwettaano	الحديث الخامس والثلاثون
Temukwataganirwanga ensaalwa, era temugulanga mukugula kwabalala, era temusunguwaliragana nga	لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا
Eva Ku Abi Hurairah -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah - okusaasira n'emirembe bibeere kuye nti:	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
Temukwataganirwanga ensaalwa, era temugulanga mukugula kwabalala, era	لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ،

<p>temusunguwaliragana nga, era temukubagananga amabega, era tatundanga omu mummwe kukutunda kwa munne, mubeere abaddu ba Allah aboluganda, Omusiraamu muganda wa musiraamu munne, tamulyazamaanya, era tamukwenakwenya,era tamulimba, era tamunyoma, awo Nabbi n'alaza eri ekifuba kye emirundi esatu nagamba nti Okutya Allah kuli wano, kimala bumazi okulaga nti omuntu mubi okunyoma mugandawe omusiraamu, buli musiraamu ku musiraamu munne kizira kuye okuyiwa omusaayi gwe, n'okutwala emmaali ye, n'okutyoboola ekitiibwa kye</p>	<p>لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرِضُهُ .</p>
<p>Yayogerwa Muslim No.2564</p>	<p>رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:2564].</p>
<p>Hadiith ey'asatu mw'omukaaga</p>	<p>الحديث السادس والثلاثون</p>
<p>Omuntu atikkula kumusiraamu munne obuzibu</p>	<p>من نفس عن مسلم كربة</p>
<p>Eva ku Abi Hurairah -Allah yasiima kuye- nga agijja ku Nabbi -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ:</p>
<p>Omuntu atikkula ku mukkiriza yenna obuzibu mubuzibu bwensi naye Allah amutikkulako obuzibu mubuzibu bw'olunaku lwenkomerero, N'omuntu</p>	<p>مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي</p>

<p>awewulira omwavu ku bbanja, oba okulimujjirako ddala (nalimusonyiwa) naye Allah amwanguyiza (obulamu) kuno kungsi nekunkomerero, N'oyo yenna abikkirira omusiraamu yenna, Allah amubikkirira kuno kungsi ne kunkomerero, Allah ayamba omuddu (munsonga ze) naye bwaba ng'ayamba muganda we, n'oyo yenna akwata ekkubo nga anoonya mulyo okumanya, Allah amwanguyiza olwekyo ekkubo erimutwaala eri ejannah, N'abantu tebakunngaana mw'emu ku nju munju za Allah, nga kyebagendereramu kusoma kitabo kya Allah n'okwejjukanya mukyo wakati wabwe okujjako nga Allah assa kubo obutebenkenu, nebabuutikirwa n'okusaasira kwe, ne bamalayika nebabawambatira, ne Allah n'abogerako nga abawaana eri abo abali gyali (bamalayika), N'omuntu emirimu gye gwegirikeereya olulyo lwe telugenda kumuyamba</p>	<p>عَوْنُ أَحِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ  عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا  اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ  اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيهَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ  السَّكِينَةُ، وَعَشَّيْتَهُمُ الرَّحْمَةَ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ  فِي مَنِّ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ  نَسَبُهُ.</p>
<p>Yayogerwa Muslim No.2699 munjogera eno.</p>	<p>رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: 2699] بهذا اللفظ.</p>
<p>Hadiith ey'asatu mw'omusaanvu</p>	<p>الحديث السابع والثلاثون</p>
<p>Mazima Allah yawandiika ebirungi n'ebibi</p>	<p>إن الله كتب الحسنات والسيئات</p>

<p>Eva ku Ibun Abbaas -Allah yasiima kubo bombiriri- nga agijja ku mubaka wa Allah - okusaasira n'emirembe bibereere kuye- yagamba mwebyo byeyajja ku mulezi we owekitiibwa Allah (Hadiith alqudus) nti:</p>	<p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ:</p>
<p>Mazima Allah yawandiika ebirungi n'ebibi oluvannyuma ekyo nakinnyonnyola. N'oyo yenna amalirira okukola ekirungi naye natakikola Allah amuwandiikako empeera yakyo mubujjuvu nga akikoze, ate bwamalirira okukikola (ekirungi) era nakikola, Allah amuwandiikako ebirungi okuva ku kumi okutuuka ku lusaanvu nga amukubisizaamu emirundi mingi n'okusingawo, Naye ate singa omuntu amalirira okukola ekibi wabula natakikola, Allah amuwandiikako gy'ali ekirungi kiramba (kimu) naye singa amalirira okukikola era n'akikola Allah amuwandiikako ekibi kimu.</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.6491 ne Muslim No.131. musawahiih zabwe munjogera ezo.</p>	<p>رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 6491]، وَمُسْلِمٌ [رقم: 131]. فِي صَحِيحَيْهِمَا هَذِهِ الْحُرُوفُ.</p>
<p>Hadiith ey'asatu mw'omunaana</p>	<p>الحديث الثامن والثلاثون</p>
<p>Yenna ampalanira ow'omukwano mba maze okumulangirirako olutalo</p>	<p>من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب</p>
<p>Eva ku Abi Hurairah -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:</p>

okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nti:	
<p>Yenna ampalanira ow'omukwano mba maze okumulangirirako olutalo. Omuddu wange tasembera gyendi namulimu gwonna nga gwagalwa nnyo gyendi kusinga ogwo gwe namulalikako, Omuddu wange tagenda mu maaso nga aseembera gyendi nemirimu egyakyeyagalire (sunnah) okujjako nga mwagala, bwemmala okumwagala nfuuka okutu kwe kwawuliza, n'amaaso ge g'alabisa, n'emikono gye gy'akwasa, n'amagulu ge g'atambuza (nga mulunngamya munkozesa yabyo), era nebwaba ng'ansabye (ekintu kyonna) nkimuwera ddala, era singa ansaba obukuumi, mukuumira ddala.</p>	<p>مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيِدَنَّهُ.</p>
Yayogerwa Bukhar No.6502	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:6502].
Hadiith ey'asatu mw'omwenda	الحديث التاسع والثلاثون
Mazima Allah yasonyiwa abantu b'ekibiina kyange ensobi, n'okwerabira	إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان
<p>Eva ku lbun Abbaasi -Allah yasiima kubo bombiriri- Mazima Omubaka wa Allah -Omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:</p>	<p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:</p>

<p>Mazima Allah yasonyiwa abantu b'ekibiina kyange (ebintu bisatu) ensobi (ekoledwa mubutanwa) n'okwerabira, n'ebyebakakiddwa kubyo</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّيِ الْخَطَأِ وَاللِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ .</p>
<p>Hadiith eri Hassan</p>	<p>حَدِيثٌ حَسَنٌ.</p>
<p>Yayogerwa Ibun Maajah No.2045, ne Baihaqi No.7</p>	<p>رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ [رقم:2045]. وَالْبَيْهَقِيُّ [السنن 7].</p>
<p>Hadiith ey'amakumi ana</p>	<p>الحديث الأربعون</p>
<p>Beera ku nsi ng'omugenyi oba ng'omuyise</p>	<p>كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ</p>
<p>Eva ku Ibun Umar -Allah yasiima kubo bombiriri-yagamba nti: Lumu Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye-yankwata kukibegabega nagamba nti:</p>	<p>عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَنْكِبِي، وَقَالَ:</p>
<p>Beera ku nsi ng'omugenyi oba ng'omuyise</p>	<p>كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.</p>
<p>Ate nga Ibun Umar -Allah yasiima kubo bombiriri- yalinga agamba nti:</p>	<p>وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:</p>
<p>Bwobanga obuwungezezza tolindiriranga enkya, ate bwobukeesanga tolindiriranga olw'eggulo, buli lwoba nga omulamu (mu mubiri) kola ebinakugasa ng'olwadde, era bwoba omulamu kola ebinakugasa nga ofudde</p>	<p>إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَتَنَطَّرُ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَتَنَطَّرُ الْمَسَاءَ، وَخُدْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.</p>

Yayogerwa Bukhar No.6416	رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: 6416].
Hadiith ey'ana mw'emu	الحديث الحادي والأربعون
Tayinza kubeera mukkiriza omu mummwe okutuusa okwagala kwe lwekugoberera ebyo byennajja nabyo	لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به
Eva ku Abi Muhammad Abdallah bun Amur bun Al-aaswi -Allah yasiima kuye-yagamba nti: Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:	عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
Omu mummwe tayinza kuba mukkiriza okutuusa nga okwagala kwe kugoberera ebyo byennajja nabyo	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.
Hadiith eri Hassan ntuufu	حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
Twagyogera mukitabo Al-Hujjah mu lujegere olutuufu	رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
Hadiith ey'ana mw'ebbiri	الحديث الثاني والأربعون
Owange omwana wa Adam mazima ebbanga lyomala ng'onsaba era nga osubira gyendi	يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
Eva ku Anas bun Maalik -Allah yasiima kuye- yagamba nti: Nawulira omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- agamba Allah owekitiibwa nti:	عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:



<p>Owange omwana wa Adam (omuntu) mazima ebbanga lwomala ng'osaba era nga osubira gyendi (okusonyiyibwa), nkusonyiwa byonna ebisobyo byolina nga sifuddeyo, owange omwana wa Adam, singa ebisobyo byo bituuka kuntikko y'eggulu, oluvannyuma n'osaba okukusonyiwa, nkusonyiwa, owange omwana wa Adam, mazima singa ojja gyendi n'ebisobyo ebijjuza ensi eno, oluvannyuma nonsisinkana naye nga tongasseeko kintu kyonna (shirk) nja kukuwa okusonyiyibwa okwenkana nabyo</p>	<p>يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَايَ، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرُكَ بِي شَيْئًا لِأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً .</p>
<p>Yayogera Tirimith No.3540</p>	<p>رَوَاهُ الرَّيْمِيُّ [رقم:3540].</p>
<p>Nagamba nti Hadiith Hassan ntuufu</p>	<p>وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.</p>
<p>Hadiith ey'ana mwessatu</p>	<p>الحديث الثالث والأربعون</p>
<p>Emigabo mugiwe bannyini gyo</p>	<p>أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا</p>
<p>Eva ku Ibun Abbaasi -Allah yasiima kubo bombiriri-yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nti:</p>	<p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:</p>
<p>Emigabo mugiwe bannanyi gyo, ekinaaba nga kisigaddewo mumigabo, kiwebwenga omusajja owenkizo kubalala</p>	<p>أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ .</p>

<p>Yayogerwa Bukhar No.6732 Ne Muslim No.1615</p>	<p>رواه البخاري [رقم: 6732]، ومسلم [رقم: 1615].</p>
<p>Hadiith ey'ana mw'ennya</p>	<p>الحديث الرابع والأربعون</p>
<p>Okuyonsebwa kuziyiza ekyo okuzaalibwa kyekuziyiza</p>	<p>الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة</p>
<p>Eva ku Aisha -Allah yasiima kuye- nga agijja ku Nabbi - okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:</p>	<p>عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:</p>
<p>Okuyonsebwa kuziyiza ekyo okuzaalibwa kyekuziyiza</p>	<p>الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.2646 ne Muslim No.1444</p>	<p>رواه البخاري [رقم: 2646]، ومسلم [رقم: 1444].</p>
<p>Hadiith ey'ana mw'ettaano</p>	<p>الحديث الخامس والأربعون</p>
<p>Mazima Allah n'Omubaka we b'aziyiza okutunda omwenge</p>	<p>إن الله ورسوله حرم بيع الخمر</p>
<p>Eva ku Jaabir bun Abdallah - Allah yasiima kubo bombiriri nti mazima yawulira omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- omwaka gw'okuggulawo makka nga agamba nti:</p>	<p>عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ:</p>
<p>Mazima Allah n'Omubakawe b'aziyiza okutunda omwenge, n'ekifudde kyokka (nyama nfu) n'embizzi, n'amasanamu, nebagamba owange omubaka wa Allah olaba otya amasavu ge kifudde kyokka mazima nga gazibikirwa nago amaato,</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُبْدَهُنَّ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ. إِنَّ اللَّهَ</p>

<p>n'okutukuza nago amaliba, era bemulisa nago abantu? nagamba nti: Nedda, g'aziyiziwa (gali haraam) oluvannyuma n'agamba omubaka wa Allah -okusaasira nemirembe bibeere kuye-kwekyo nti: Allah yakolimira abayudaaya, Mazima Allah bweyabaziyizaako amasavu (gensolo efudde yokka) okugalya b'agaloongosa n'oluvannyuma nebagatunda nebalya omuwendo ogugavudde mu.</p>	<p>حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَآكَلُوا ثَمَنَهُ.</p>
<p>Yayogerwa Bukhar No.2236 ne Muslim No.1581</p>	<p>رواه البخاري [رقم: 2236]، ومسلم [رقم: 1581] .</p>
<p>Hadiith ey'ana mw'omukaaga</p>	<p>الحديث السادس والأربعون</p>
<p>Buli kitamiiza kyaziyizibwa</p>	<p>كل مسكر حرام</p>
<p>Eva ku Abi Buruda nga agijja ku Abi Muusa Al-ashi-ari -Allah yasiima kuye- nti mazima Nabbi -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yamutuma eri abantu be Yemen, namubuuza kubyokunywa ebikolebwa yo (ebisogolwayo), nagamba nti: byebiriwa? namugamba nti: Al-bitu-ari, ne Al-miziru, nabuzibwa Abu Buruda nti Al-bitir kyekki? nagamba nti: mubisi oguva mu ntende, ate Al-Miziru gukamulwa mu Sha-eer, (Nabbi) namugamba nti:Buli kitamiiza kyaziyizibwa</p>	<p>عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِيَّةٍ تُصْنَعُ بِهَا. فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: الْبَيْتُ وَالْمَرْزُ، فَقِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبَيْتُ؟ قَالَ: نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَالْمَرْزُ نَبِيدُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .</p>

Yayogerwa Bukhar No.4343	رواه البخاري [رقم:4343] .
Hadiith ey'ana mw'omusaanvu	الحديث السابع والأربعون
Omuntu tajuzaangako kisawo bubu okusinga olubuto	ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن
Eva ku Al-miqidaad bun Ma-adiyakirab, yagamba nti:Nawulira Omubaka wa Allah -okusaasira n'emirembe bibeere kuye nga agamba nti:	عَنْ الْمُفَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:
Omuntu tajjuzangako kisawo bubu okusinga olubuto, kimalira omuntu okulya ekigero ekyo kyayimirizaawo nakyu obulamu bwe, naye bwekiba nga tekyebeereka olubuto alwawulengamu ebitundu bisatu, ekisooka kyammere, ekyokubiri kya byakunywa, eky'okusatu kyakusizaamu.	مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَتْ يُقَمِّنُ صَلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَءَ، فَتَلَّتْ لِبَعَامِهِ، وَتَلَّتْ لِبَشْرَائِهِ، وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ .
Yayogerwa Ahmad No.4/132, ne Tirimith,No.2380, ne Ibun Maajah, No.3349	رَوَاهُ أَحْمَدُ [رقم: 132/4]، وَالتِّرْمِذِيُّ [رقم: 2380]، وَابْنُ مَاجَةَ [رقم: 3349].
Yayogerwa Tirimith N'agamba nti Hadiith eri Hassan.	وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .
Hadiith ey'ana mw'omunaana	الحديث الثامن والأربعون
Ebintu bina yenna aba nabyo abeera munnaanfuusi	أربع من كان فيه كان منافقا
Eva ku Abdallah Ibun Amru -Allah yasiima kubo bombiriri-Nti mazima Nabbi -okusaasira n'emirembe bibeere kuye-	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

yagamba nti:	
Ebintu bina yenna asangibwa nabyo abeera munnaanfuusi, era singa abeerako nekimu kubyo, aba alimu ekitundu ky'ob'onnaanfuusi okutuusa lwakireka: Oyo yenna nga bwanyumya alimba, era nga bwalaganyisa ayawukana, era nga bwafuna obutakkaanya n'omuntu ayonoona (asukka ekkomo) era nga bwawerera yekyuusa	أَرَبُّعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِه كَانَ مُنَافِقًا، وَإِنْ كَانَتْ حَصَلَةٌ مِثْنَيْنِ فِيهِه كَانَتْ فِيهِه حَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ.
Yayogerwa Bukhar No.34 ne Muslim No.58	رواه البخاري [رقم:34]. ومسلم [رقم:58].
Hadiith ey'ana mw'omwenda	الحديث التاسع والأربعون
Singa mwali mwesigamira Allah mubutuufu bw'okumwesigamira	لو أنكم تاكلون على الله حق توكله
Eva ku Umar bun Al-khattwab - Allah yasiima kuye- nga agijja ku Nabbi -okusaasira n'emirembe bibeere kuye- yagamba nti:	عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
Singa mwali mwesigamira Allah mubutuufu bwokumwesigamira, yandibagabiridde nga bwagabirira ekikyonyi, kifuluma mukisu kyakyo mumatulutulu (kumakya ennyo) nga kiyala, nekikomayo akawungeenzi nga kikkufu	لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَتَّى تَوَكَّلِيهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.
yayogerwa Ahmad No.01, ne 52, ne Tirimith No.2344, ne Nassa-ie No. mukitabo kye	رَوَاهُ أَحْمَدُ [رقم: 0 1 و52]. وَالْتَرْمِذِيُّ [رقم:2344]. وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى كَمَا فِي

<p>ekiyitibwa Kubura nga bwekiri mu Tuhufa No.8/78, ne Ibum Maajah No.4164, nagamba Ibum Hibbaan nti ntuufu No.730, ne Al-Haakim No.418</p>	<p>التُّحْفَةُ: [رقم: 79/8]. وَأَبْنُ مَاجَهَ [رقم: 4164]. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (730). وَالْحَاكِمُ 418.</p>
<p>Nagamba Tirimith nti Hadiith eri Hassan ntuufu</p>	<p>وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.</p>
<p>Hadiith ey'amakumi ataano</p>	<p>الحديث الخمسون</p>
<p>Olulimi lwo terulekaayo kutendereza Allah.</p>	<p>لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل</p>
<p>Eva ku Abdallah bun Yusiri nagamba:</p>	<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ:</p>
<p>Yajja Omusajja eri Nabbi - okusaasira n'emirembe bibeere kuye- nagamba nti: Owange Omubaka wa Allah, Mazima amateeka g'obusiraamu gatuyitiriddeko obungi, naye tewali mulyango gubuna gwetuyinza kwekwatako? nagamba nti: Olulimi lwo terulekaayo kujjukira (okutendereza) Allah owekitiibwa</p>	<p>أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابَ نَتَمَسَّكَ بِهِ جَمِيعٌ؟ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.</p>
<p>Yayogerwa Ahmad No. 188, ne 190</p>	<p>رواه أحمد [رقم: 188 و 190].</p>

